



## سوال

اللہ تعالیٰ کو دوست کہنا

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا اللہ رب العالمین کو اپنا دوست کہنا جائز ہے۔؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اگر تو دوست سے مراد حمایتی اور مددگار ہو تو اس معنی میں یہ لفظ قرآن مجید میں 'ولی' کے الفاظ میں اہل ایمان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ البقرہ: ۲۵۷

اور اس طرح کی دیگر کئی آیات اس پر دلالت ہیں۔ لیکن اس معنی سے غلط مفہوم کشید کرنا اور مخلوق میں سے کسی فرد کو مقام الوہیت پر فائز کرنے کی کوشش کرنا انتہائی قبیح حرکت ہے اور ایسی توجیہات شرک کے زمرہ میں آتی ہیں۔

صدما عنہدی واللہ اعلم بالصواب

محدث فتویٰ

فتویٰ کمیٹی